



PRESS RELEASE

For immediate release

December 5, 2019

SECP, ADB organize stakeholder consultations on Financial Market Development 2020-25

KARACHI, December 5: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Asian Development Bank (ADB) jointly organized a workshop for stakeholder consultations on Financial Market Development 2020-25. The long term roadmap will be focusing on demand and supply measures to broaden and deepen the financial system in Pakistan.

Senior level representatives from the ADB, State Bank of Pakistan, SECP and representatives of stock exchange, central depository, national clearing company and market participants attended the brainstorming session.

In his welcoming remarks, SECP Chairman Aamir Khan affirmed that SECP's foremost obligation remains towards building a regulatory environment that is sound, efficient and cost-effective. "Yet, I am equally passionate about ensuring that it is empowering for business growth. One must not be sacrificed at the cost of the other. We need to be fiercely vigilant in the pursuit of transparency, yet be tirelessly focused on reducing regulatory barriers and cost of doing business", said the SECP Chairman.

Regarding the projected roadmap, Mr. Khan opined that supporting multi-stage financing needs of start-ups and SMEs, increasing the number of retail investors, strengthening the role of institutional investors, creating an active bond market and promoting infrastructure-financing vehicles would be core constituents of the future roadmap. However, he emphasized, the roadmap must entail a broad and deep consensus between the SECP, and other relevant stakeholders in the public and private sectors.

SECP Commissioner Securities Market, Shauzab Ali, gave his views on SECP's approach to the reform plans already being undertaken by the regulator, challenges and opportunities.

A team of international experts facilitated the workshop with a view to consolidate market feedback on the various on the supply and demand side constraints, along with recommendations for reform.

ADB Deputy Country Director for Pakistan, Asif Cheema, stated that the proposed Financial Markets Development Program is in line with ADB's Strategy 2030, which prioritizes the development of the financial sector and capital markets to support the development of the private sector and enhance financial stability. This program will build upon ADB's earlier support for development of Pakistan's capital markets over the past two decades. Mr. Cheema also reiterated the need for government ownership for implementation of the master plan.

ایس ای سی پی، انشین ڈویلپمنٹ بینک (اے ڈی بی) کی فنانشل مارکیٹ ڈویلپمنٹ پروگرام پر مشاورتی ورکشاپ

کراچی (دسمبر 5):- پاکستان میں سرمائے کی مارکیٹ کے فروغ اور استحکام کے لئے، سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان انشین ڈویلپمنٹ بینک کے تعاون سے پانچ سالہ فنانشل مارکیٹ ڈویلپمنٹ پروگرام تشکیل دے رہا ہے۔ اس پانچ سالہ روڈ میپ کا مقصد سرمائے کی مارکیٹ میں طلب و رسد کے معیارات کو بہتر بنا کر مارکیٹ میں وسعت اور استحکام پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں تمام اہم شراکت داروں سے مشاورت کے لئے ایس ای سی پی اور اے ڈی بی نے ایک مشترکہ ورکشاپ منعقد کی۔

ورکشاپ میں ایس ای سی پی، سیٹ بینک آف پاکستان، اے ڈی بی کے اعلیٰ عہدیداران اور اسٹاک ایکس چینج، سینٹرل ڈپازٹری، نیشنل کلیئرنگ کمپنی اور مارکیٹ کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ای سی پی کے چیئرمین عامر خان نے کہا کہ بطور ریگولیٹر اس کے ادارے کی اولین ترجیح ملک میں ایک مضبوط، مستحکم اور سہل ریگولیٹری ماحول کی فراہمی ہے۔ انہوں نے زور دیا سب اداروں کا مقصد ملک میں معاشی ترقی کے خواب کو پورا کرنا ہے، تاہم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی ایک شعبے کی ترقی کسی دوسرے کی قیمت پر حاصل نہ ہو۔ چیئرمین ایس ای سی پی نے کہا کہ ہمیں انضباطی رکاوٹوں کو آسان بنانا اور کاروباری لاگت کو کم کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے ہر لمحہ چوکنا بھی رہنا ہے۔

کیپٹل مارکیٹ کے مجوزہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے عامر خان نے کہا کہ سٹارٹ اپس اور سال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لئے سرمائے کی ضروریات کو پورا کرنا، ریٹیل سرمایہ کاروں کی تعداد میں اضافہ، ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے کردار میں اضافہ، ایک مستعد بانڈ مارکیٹ کا قیام اور انفراسٹرکچر کے لئے سرمائے کی فراہمی مارکیٹ کے مجوزہ ترقیاتی پروگرام کا اہم جزو ہوں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی کامیابی کے لئے ایس ای سی پی اور دیگر شراکت داروں کے مابین اتفاق اور تعاون بہت ضروری ہوگا۔

ایس ای سی پی کے کمشنر شاد علی نے اس موقع پر ایس ای سی پی کی جانب سے سیکیورٹیز مارکیٹ میں کی گئی اصلاحات اور اس سلسلے میں درپیش مسائل و چیلنجز اور موجودہ مواقع پر بریفنگ دی۔ ورکشاپ میں ماہرین نے مارکیٹ میں سرمائے کی رسد و طلب میں حائل رکاوٹوں اور اصلاحات کی سفارشات پر شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی۔

اے ڈی بی کے کنٹری ڈائریکٹر آصف چیمہ نے کہا کہ فنانشل مارکیٹ ڈویلپمنٹ پروگرام انشین ڈویلپمنٹ بینک کے منصوبہ 2030 کا حصہ ہے جس کا مقصد مالی استحکام کے لئے کیپٹل مارکیٹ اور مالیاتی شعبے کے فروغ کے لئے نجی شعبے کو تعاون فراہم کرنا ہے۔ یہ پروگرام اے ڈی بی کی پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ کے فروغ کے لئے گزشتہ دو دہائیوں میں کی گئی سپورٹ کی بنیاد پر تشکیل دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم منصوبے کی کامیابی کے لئے حکومتی تعاون و حمایت درکار ہوگی۔